_		
☆	S.S.C-(Part-II)-A-2022	
Roll No. Single	(For all sessions)	Paper Code 7 0 9 1
	گروپ-ا-Group	
	•	جزل سائنس (معربنی)
General Science (Obje	ctive Type) Rwf-912	بنر في منا في (معروضي) منا المناقبة
Marks: 15	وقت:20 Minutes وقت	نوسف تمام سوال سر کرحوال سر دی گئی معریض بر داری از ککس
ئى جواب كوآپ درست مجھيں ،	ی کے چارمکننہ جوابات C,B,A, اور D دیئے گئے ہیں،؟ رمیں سہ متعاقہ دائر سی کی ایس کی رہے ہے گئے ہیں،؟	نوف: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کا پی پر کھیسے ہرسوال جوابی کا پی پر اس سوال نمبر کے سامنے جزو C,B، A یا Dکے دائروں
-L	ا من مصطلعه والرئے تو مار کریا بیان کی سیابی سے جرد آ	ded. Four possible answers A,B,C & D to
NOTE: Write answers to the questions	you consider correct, fill the corr	esponding circle A,B,C or D given in front
of each question with Marker or pen in-	on the answer sheet provided.	
		1.1. ایک کی ایمپیر برابر ہے: 1.1. ایک کی ایمپیر برابر ہے:
1.1. One miliampere is equal to:	(C) 10 ⁻⁹ A	(D) 10 ⁻¹² A
(A) 10 ⁻³ A (B) 10 ⁻⁶ A	- 1	2. چارج کے بہاؤیس رکادے کہلاتی ہے:
2. Hurdle in flow of charges is called:	(C) Resistance	شعف (D) Shunt رزستنس
(A) Viscosity وسكاش (B) Gravity	(c) Resistance	3. جارج كايوث ہے:
3. The unit of charge is:	جول (C) Joule) واث	(D) Ampere المينيز
(A) Coulomb كولومب (B) Watt	(-)	4. لا ئيواور نيوثرل وائر كدرميانووك كاليونينشل وفرينس م
4. The potential difference between liv (A) 210 V (B) 220 V	(C) 230 V	(D) 240 V
((0, 250)	5. يشرى بميں از بى مهيا كرتى ہے:
5. Battery provides us energy:	(B) Sound energ	ساؤنڈانر جی س
(A) Heat energy حرارتی از جی نیوکلیترانر جی (C) Nuclear energy	(D) Electrical en	ergy اليكثريكل انرجي
نوفیتراز کی (C) Nuclear energy نوفیتراز کی 6. Which source of power is not trad		6. پاورکا کونساذر بعیروائیتی نہیں ہے؟
(A) Thermal مرك (B) Hydro		(D) Solar Jy
7. One kilo-watt is equal to:		7. إيك كلوداث برابرب:
(A) 10W (B) 100W	(C) 1000W	(D) 10000W
8. The cause of flow of current in p-t	The second secon	8. پی ٹائپ سیمی کنڈ کٹر زمیں کرنٹ بہنے کا سبب ہیں:
(A) Electrons الكيثرون (B) Protor	ام المراق (C) Holes المراق ال	پوزیروز Positrons (D)
9. The number of electron guns in co		9. كلر ثيلي ويژن مين اليكثر ونٍ گنزكي تعداد بهوتي مين:
(A) Two 99 (B) Three	عِار C) Four) تين	(D) Five ခြံ့
		10. يەلك آۇڭ پىڭ آلەسے:
10. It is an output device: (A) Keyboard کلیورژ (B) Mous	e كان (C) C.D كائل	(D) Monitor مونير
		11. كوسى چيز گنے مين نہيں يائى جاتى ؟
11. Which component is not found in (A) Glucose گلوکوز (B) Water		(D) Chlorine كلورين
12. Which is not a natural fibre?	(0)	12. كونسا قدرتى رييزنيس ہے؟
(A) Cotton کان (B) Jute	سک (C) Silk جیوٹ	(D) Nivion with
13. The process of radioactivity was		13. ريْديوا يَكْيُو يِنْ كَامْلُ دريافت هوا:
		(D) 1898
(A) 1895 (B) 1896 14. The man landed on Moon in:	V-1	14. انسان نے چاند پر قدم رکھا:
(A) 1959 (B) 1969	(C) 1979	(D) 1989
15. The name of the first artificial sa		13. ریڈریوا کیٹیو پی کاعمل دریافت ہوا: 1898 (D) المجاب 1988 المجاب 14. انسان نے چاند پر قدم رکھا: 1989 (D) المجاب کے پہلے مصنوعی سیطلائیٹ کانام ہے:
(A) SKUA Let (B) Sput	nik-1 1-عنك (C) Rahbar	بر-1 (D) Badar-1 ريم

R

37-10-A-☆

Roll No.	ا میدوارخود پر کرے	(For all	sessionsi		39.00	
110	233750	(روب-ا گروپ-ا		ينس (انثالَ	جز ل سأ
كل نمبر: 50	Δ	.0	* **	حقيه اوّل		وتت:2:10
12=6x2	14	wf-91	22	اء كِ مُنْقر جوابات تحرير يجيئ		
	کنوینشنل کرنٹ کی تعریف کریں ہے	رادے؟ اال	شارٹ سرکٹ ہے کیام		ں کے دن سے چوہ ہو۔ زیف کریں اور اس کا پو	
	ہارڈ ویٹر کے حاراہم حصول کے نام کھیے		اليكثرانكس كي تعريف ليج			
اورمقام کھیں۔	پاکستان کے دو نیوکلیئر پاور بلانش کے نام	ix S	سونج کا کیا کام ہوتاہے	-4		
2=6x2	,		7 11 12 05	اء يخفرجوابات تحرير فيج		
6	نیوکلیئر فیول ہے لاحق دوخطرات تح برکیجیہ	.iii	گلوانومیٹر کیا ہے؟	ii	ور کی تعریف کیجیئے ۔ ور کی تعریف کیجیئے ۔	
ت تح رکیدے۔	آ کٹرنیٹنگ کرنٹ (AC) کے دواستعالا		فيوز كى تعريف يجيئے -	تعالات لکھیئے ۔ v	(E-mail) کے دوات	ای ای میل
/	ماحول کی ابتری ہے کیامراد ہے؟		بارڈ ڈسک کیاہے؟		يكنالوجي كى تعريف كيجيئ	
12=6x2				اء کے مختر جوابات تحریر کیجئے۔		
-س ال	. آ ئىونۇپىس كى تعرىف كىچىئے اورايك مثال	وفا ئدے لکھیں۔ iii.	ایکس ریز کے کوئی ہے د	.ii) كى تعريف كيجيئے -	
	مینری ہے کیا مراد ہے؟	راد ہے؟ ٧١.	" كرشل بنانا" بي كيام	. V	لى كى تعريف كيچىئے ۔	
	سپیس پروبز کیا ہیں؟ایک مثال دیں۔	یکریں۔ ix.	سكوا كيابين؟ انكافعل تُحرِير		كيابي؟اسكافعل تحريركر	
4=3x8				حقد دوم	., -	
U. F.			ري-	تین سوالات کے جوابات تحریر کر	ال میں ہے کوئی ہے	نوث ورج
م 2 € 04=3+1	کے کہتے ہیں اور اس کا ماحول پر کیا اثر پڑتا	ا (ب) تقرمل يولوش				
	خطرات پر قابو یانے کی کوئی سی حیارا حتیاطی تد	(ب) الكثريشي ك	04=2+2	ان کے استعالات بیان کیجئے۔	سنرك مختلف اقسام اورا	6.(الف) كي
04=4x1	رآؤث بن آلات كى وضاحت كريس	(ب) کمپیوٹر کے جا	الات بيان كرير - 04	ئیوڈ کیاہوتے ہیں؟ان کے تین استع	ن خارج كرنے والے ڈا	7. (الف) روثخ
ت گریر کیجئے ۔2+2=04	ے کیا مرادہے؟ الفاریڈی ایشنز کی دوخصوصہ			کے تین استعالات بیان کریں۔		
ر مات لکھیئے ۔ 4×4×4	شعبے میں پاکستان اٹا مک انر جی کمیشن کی خ	ا (ب) میڈین کے	ات بن ۱ +3=40	هِ؟ ملك كارتى مين اس كي كياخد ،	PINSTEC	9.(الف) H
					•	
General	Science (Essa)	y Typo)	0	Arrall area	eione)	
	COLUMN / LOUR	y rype)	Group-	For all sess	510115/	
Time: 2:10 H			Group-I	(For all sess		Aarks: 60
		Sec	tion -I	For all sess		Marks: 60 2x6=12
2- Write short i. Define ener	ours answers of any six pa gy and write its unit.	Sec erts from the	tion -1 following. What is mea	nt by short circuit?	Total N	2x6=12
2- Write short i. Define ener iii. Define conv	ours answers of any six pargy and write its unit.	Sec arts from the ii iv	tion -I following What is mea What harmful	nt by short circuit? gases are emitted t	Total N	2x6=12 fossil fuel?
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec	ours answers of any six pergy and write its unit. rentional current. tronics.	Sec arts from the iv vi	following. What is mea What harmful Write names	nt by short circuit? gases are emitted by of four main parts of	Total Now by burning of for hardware.	2x6=12 fossil fuel?
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose	ours answers of any six pergy and write its unit. ventional current. tronics. et is a receiver. How does	Sec serts from the ii, iv. vi. s it work? viii	following. What is mea What harmful Write names What is the f	nt by short circuit? gases are emitted by of four main parts of unction of a switch?	Total Now by burning of for hardware.	2x6=12 fossil fuel?
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na	ours answers of any six pargy and write its unit. ventional current. tronics. It is a receiver How does	Sec Arts from the ii, iv. vi. s it work? viii nuclear powe	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of P	nt by short circuit? gases are emitted by of four main parts of unction of a switch?	Total Now by burning of for hardware.	2x6=12 fossil fuel?
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na - Write short	ours answers of any six pergy and write its unit. ventional current. tronics. et is a receiver. How does	Sec arts from the iv. vi. s it work? viii nuclear powe arts from the	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of P	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan.	Total Now by burning of for hardware.	2x6=12 fossil fuel?
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na iv. Define Geo	answers of any six party and write its unit. It wentional current. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six party and any six party and answers of any six party and any six part	Sec serts from the iv. iv. vi s it work? viii nuclear powe erts from the	following. What is mea What harmful Write names What is the fer stations of P following.	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. vanometer?	Total Now by burning of for hardware.	2x6=12 fossil fuel?
i. Define ener v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na - Write short i. Define Geo iii. Write two h v. Define Fuse	answers of any six party and write its unit. It wentional current. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver to nuclea according to nuclea according to nuclea according to any six party and the result of the nuclea according to any six party according to nuclea according to any six party according to nuclea according to any six party according to a six party according to any six party according to a six party according to a six party according to a six party according to any six party according to a six	Sec strts from the iv. vi. s it work? viii nuclear powe arts from the ii. iv. vi.	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of P following. What is Galv Write two use. Write two use.	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. vanometer? es of E-mail. es of alternating cur	Total No.	2x6=12 fossil fuel?
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na - Write short i. Define Geo iii. Write two hav. Define Fuse vii. Define infor	answers of any six party and write its unit. It wentional current. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver to muclea a comparty and places. It is a receiver. How does a receiver. How does are and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver to muclea a comparty and the receiver to mucle	Sec strts from the iv. vi. s it work? viii nuclear powers from the ii. ir fuel. iv. vii.	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of P following. What is Galv. Write two use	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. vanometer? es of E-mail. es of alternating cur	Total No.	2x6=12 fossil fuel?
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na - Write short i. Define Geo iii. Write two h v. Define Fuse vii. Define infor ix. What is me	answers of any six pergy and write its unit. It wentional current. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver to nuclear exacts related to nuclear exacts. It is a receiver to nuclear exacts related to nuclear exacts. It is a receiver to we does any six parthermal power. It is a receiver to the does any six parthermal power. It is a receiver to the does any six parthermal power. It is a receiver to we does any six pa	s it work? viii nuclear powe arts from the iv. viii nuclear powers from the iv. viii nvironment?	following. What is mea What harmful Write names What is the fer stations of P following. What is Galv Write two use Write two use What is Hard	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. vanometer? es of E-mail. es of alternating cur	Total No.	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na B-Write short i. Define Geo iii. Write two h v. Define Fuse vii. Define infor ix. What is me	answers of any six party and write its unit. It wentional current. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver to work answers of any six parthermal power. It is a receiver to work answers of any six parthermal power. It is a receiver to work answers of any six parthermal power. It is a receiver to work answers of any six parthermal powers.	s it work? viii nuclear powe arts from the iii iv iv iii nuclear powe iii iv iv iii iv iv iii iv iv iii iv iv	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. What is Galv. Write two use. Write two use. What is Hard	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? wakistan. wanometer? es of E-mail. es of alternating curl. I Disk?	Total Most by burning of the foot hardware.	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na iv. Define Geo iii. Write two h v. Define Fuse vii. Define infor ix. What is me i. Define Derr i. Define Derr	answers of any six pergy and write its unit. Iteronics. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six parthermal power. Iteronics are a control of each of the control of th	s it work? viii nuclear powe irts from the ii nuclear powe irts from the ii iv vii rvironment? irts from the iii iv viii	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. What is Galv. Write two use. Write two use. What is Hard	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? wakistan. wanometer? es of E-mail. es of alternating curl Disk?	Total Most by burning of the foot hardware.	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na i. Write short i. Define Geo iii. Write two have Define Fuse vii. Define infor ix. What is me i. Define Derr ii. Define Isoto	answers of any six party and write its unit. It wentional current. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver to work answers of any six parthermal power. It is a receiver to work answers of any six parthermal power. It is a receiver to work answers of any six parthermal power. It is a receiver to work answers of any six parthermal powers.	set from the iversity of the i	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. What is Galv. Write two use. Write two use. What is Hard	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? wakistan. wanometer? es of E-mail. es of alternating curl Disk?	Total Most by burning of the foot hardware.	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12
i. Define ener iii. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na i. Define Geo iii. Write two h v. Define Fuse vii. Define infor ix. What is me i. Define Derr ii. Define lsoto v. What is me	answers of any six pergy and write its unit. It wentional current. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six part thermal power. It is a receiver to mucleate and places of two answers of any six part thermal power. It is a receiver to mucleate and places of any six part thermal power. It is a receiver to mucleate and the powers of any six part by Degradation of elanguage. It is a receiver to mucleate and the powers of any six part part to provide any six part powers and give an example and give an example and six part to the provide and six part to the provide and the prov	set iv vii nuclear powers from the ii. vii vii nuclear powers from the ii. vii nuclear from the ii. vii nvironment?	following. What is mea What harmful Write names What is the fer stations of P following. What is Galv Write two use Write two use What is Hard following. What is Hard following. Write any two Define E.E.G.	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. vanometer? es of E-mail. es of alternating cur I Disk?	Total Manager of the following of the fo	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na i. Define Geo iii. Write two h v. Define Fuse vii. Define infor ix. What is me I- Write short i. Define lsoto v. What is me vii. Define lsoto v. What is me viii. What is me viii. What is me	answers of any six pergy and write its unit. It wentional current. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six partitles are related to nuclear elements. It is a receiver of any six partitles are related to nuclear elements are any six partitles are related to nuclear elements. It is a receiver of any six partitles are related to nuclear elements by Degradation of elements are any six partitles and give an example ant by crystallization?	set from the iverse from the i	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. Write two use. Write two use. What is Hard following. Write any two. Define E.E.G. What is mea.	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. ranometer? es of E-mail. es of alternating curl. Disk? Disk?	Total Manager of the following of the fo	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12
i. Define energiii. Define energiii. Define electorii. Our radiose ix. Write the notate iii. Define Geoliii. Write two how Define Fuse iii. Define informaticate iii. Define informaticate iii. Define Derromaticate iii. Define Derromaticate iii. Define Isotoro with the work iii. Define Isotoro with the work is mediii. What is mediii. What is mediii. What is Mediii. What are special iii. Define Isotoro with the work iii. What is mediii. What is mediii. What is Mediii. What are special iii. Define Isotoro with the work iii. What is Mediii. What are special iii. Define Isotoro with the work iii. What is Mediii. What are special iii. Define Isotoro with the work iii. What is Mediii. What are special iii.	answers of any six pergy and write its unit. Ventional current. Itronics. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does answers of any six parthermal power. It is a receiver How does and powers of any six parthermal powers and give an example and by crystallization? It is a receiver How does and places of any six parthermal powers of any six parthermal pow	set from the iversity of the i	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. What is Galv. Write two use. Write two use. What is Hard. following. Write any two. Define E.E.G. What is mea. What is SKU	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. ranometer? es of E-mail. es of alternating curl. Disk? Disk?	Total Manager of the following of the fo	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12
i. Define ener iii. Define elec vii. Our radiose ix. Write the note iii. Write short i. Define Geo iii. Write two how Define Fuse vii. Define information ix. What is mediate the content is to be the content is to be the content in the content is to be the content in the conte	answers of any six pergy and write its unit. Ventional current. Itronics. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does answers of any six parthermal power. It is a receiver How does and power and give an example and give an exa	set from the ii. vi. viii nuclear powerts from the ii. vi. viii nvironment? Irts from the ii. vi. viii nvironment? Irts from the ii. vi. viii cample.	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. What is Galv. Write two use. Write two use. Write two use. What is Hard. following. Write any two. Define E.E.C. What is mea. What is SKU	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. ranometer? es of E-mail. es of alternating curl Disk? o advantages of X-ro ant by Tannery? IA?Write their function	Total Manager of the following of the fo	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12 2x6=12
i. Define ener iii. Define conv v. Define elec vii. Our radiose ix. Write the na i. Define Geo iii. Write two h v. Define Fuse viii. Define Fuse viii. Define infor ix. What is me i. Define Derr ii. Define lsoto v. What is me viii. What is me viii. What are sp ix. What are sp Note: Answ i.(a) Define energia.	answers of any six party and write its unit. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does answers of any six parthermal power. It is a receiver How does answers of any six parthermal power and give an example and give and give an example and give	set from the iverse from the followers from the follower	following. What is mea What harmful Write names What is the fer stations of P following. What is Galv Write two use What is Hard following. What is Hard following. What is mea What is mea	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? eakistan. eanometer? es of E-mail. es of alternating curl. Disk? o advantages of X-ro. int by Tannery? IA?Write their function	Total Manager of the following of the fo	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12 2x6=12 8x3=24 1+3=04
i. Define energiii. Define electriii. Define electriii. Our radiose ix. Write the note iii. Write short i. Define Geoliii. Write two how Define Fuse iii. Define informix. What is me iii. Define lsoto word with the control of the co	answers of any six party and write its unit. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver any six parthermal power any six part by Degradation of elementary and give an example and by crystallization? It is a receiver any three question of ergy. What is difference to the remail Pollution and how the remail pollution and the r	set from the iverse it work? viii nuclear power into from the iii. It is interested in the iii. It is i	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. Write two use. Write two use. What is Hard. Write any two. Define E.E.C. What is mea. What is SKU. Ction -II collowing. It cenergy and cot the environne.	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? eakistan. eanometer? es of E-mail. es of alternating curl. Disk? o advantages of X-ro. int by Tannery? IA?Write their function	Total Manager of the following of the fo	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12 2x6=12 8x3=24 1+3=04 1+3=04
i. Define energiii. Define electorii. Our radiose ix. Write the n. 3- Write short i. Define Geoliii. Write two how Define Fuse iii. Define information ix. What is me short in Define Derroiii. Define late v. What is me vii. What is me viii. What	answers of any six party and write its unit. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver and the property of any six party of	set from the ii. vi. vii. vii. vii. vii. vii. vii.	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. What is Galv. Write two use. What is Hard following. Write any two. Define E.E.C. What is mea. What is skull to the environmuses.	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. anometer? es of E-mail. es of alternating curl. Disk? advantages of X-ro. Int by Tannery? A?Write their function. Potential energy? nent?	Total Manager of the following of the fo	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12 2x6=12 2x6=12 4x6=12 4x6=12
i. Define energiii. Define electorii. Our radiose ix. Write the notate iii. Define Georgiii. Write two how Define Fuse iii. Define information in Define information in Define Derromation in Define Isotorii. Define Isotorii. Define Isotorii. Define Isotorii. Define Isotorii. What is me iii. What is me iii. What is Me ix. What are spondard iii. What is Me ix. What is Me ix. What is Me ix. What is The ix. (a) Define energii. (b) What is The ix. (b) Describe iii.	answers of any six party and write its unit. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver any six parthermal power any six part by Degradation of elementary and give an example and by crystallization? It is a receiver any three question of ergy. What is difference to the remail Pollution and how the remail pollution and the r	set from the ii. vi. viii nuclear powerts from the ii. vi. viii nvironment? If the iv. viii nvironment? If the iv. viii kample. See the from the footween Kinet w does it effections and their ineasures to conserve to conse	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. What is Galv. Write two use. Write two use. What is Hard. following. Write any two. Define E.E.C. What is mea. What is SKU ction -II ollowing. tic energy and of the environnuses. ontrol the danger	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. anometer? es of E-mail. es of alternating curl. Disk? advantages of X-ro. Int by Tannery? A?Write their function. Potential energy? nent?	Total Manager of the following of the fo	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12 2x6=12 8x3=24 1+3=04 1+3=04
i. Define energiii. Define electorii. Our radiose ix. Write the notation of the control of the c	answers of any six pergy and write its unit. Ventional current. Itronics. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does a massers of any six parthermal power. It is a receiver How does a massers of any six parthermal power. It is a receiver How does answers of any six parthermal begradation of eranswers of any six particular. It is a receiver How does and six parthermal begradation of eranswers of any six parther and six properties. It is a receiver How does and six parthermal begradation of eranswers of any six parther and six properties. It is a receiver How does and six parthermal begradation of eranswers of any six parther begradation of eranswers	set from the ii. vi. viii nuclear powerts from the ii. vi. viii nvironment? Irts from the ii. vi. viii nvironment? Irts from the ii. vi. viii kample. See from the foetween Kinet w does it effectors and their the easures to conscribe their the iii.	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. What is Galv. Write two use. Write two use. What is Hard. following. Write any two. Define E.E.C. What is mea. What is SKU ction -II ollowing. tic energy and of the environnuses. ontrol the danger	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. anometer? es of E-mail. es of alternating curl. Disk? advantages of X-ro. Int by Tannery? A?Write their function. Potential energy? nent?	Total Manager of the following of the fo	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12 2x6=12 2x6=12 8x3=24 1+3=04 1+3=04 2+2=04 1x4=04
i. Define energiii. Define electronico. Define electronico. Define electronico. Define electronico. Define Georgii. Write two how Define Fuse vii. Define Fuse viii. Define informatico. What is me to the work of the control of the c	answers of any six party and write its unit. Ventional current. It is a receiver. How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver and power. It is a receiver and power. It is a receiver any six parthermal power. It is a receiver any six part and by Degradation of element by crystallization? It is a receiver any three question of element power. It is function on the property. What is difference to the remaining the power any three questions are received any four precaution and how lifterent types of capacital any four precautionary might emitting diodes? Desur output devices of complitrasound? Write their the	set strom the like it work? viii nuclear powers from the like it with the	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. What is Galv. Write two use. What is Hard. What is Hard. What is Hard. What is mea. What is skull. What is mea. What is Skull. Ction -II collowing. Lic energy and ct the environnuses. Control the dangeree uses.	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. anometer? es of E-mail. es of alternating curl. Disk? advantages of X-ro. Int by Tannery? A?Write their function. Potential energy? nent?	Total Manager of the following of the fo	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12 2x6=12 8x3=24 1+3=04 1+3=04 2+2=04 1x4=04 04
i. Define energiii. Define electorii. Our radiose ix. Write the notation of the control of the c	answers of any six pergy and write its unit. Ventional current. Itronics. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does answers of any six parthermal by Degradation of erganswers of any six parther by crystallization? It is a receiver How does and power any six parther its function and by crystallization? It is a receiver How does and place and give an example and give an example and by crystallization? It is difference to the receiver any three question and how lifterent types of capacity any four precautionary may be a receiver types of capacity and four precautionary may be a receive the production of the receiver types of capacity and the production of the receiver types of capacity and the production of the receiver types of capacity and the production of the receiver types of capacity and the receiver types of	set from the ii. vi. viii. nuclear powerts from the iii. vi. viii.	following. What is mea What harmful Write names What is the fer stations of P following. What is Galv Write two use Write two use What is Hard following. Write any two Define E.E.C. What is mea What is SKU ction -II ollowing. tic energy and ct the environnuses. ontrol the dangeree uses.	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. anometer? es of E-mail. es of alternating curl. Disk? advantages of X-ro. Int by Tannery? A?Write their function. Potential energy? nent?	Total Manager of the following of the fo	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12 2x6=12 8x3=24 1+3=04 1+3=04 2+2=04 1x4=04 04 04
i. Define energiii. Define electivii. Our radiose ix. Write the notate iii. Define Georgiii. Write two how Define Fuse iii. Define information in Define information iii. Define Derroiii. Define Derroiii. Define lattice iii. What is me viii. What is The viii. (a) Describe a viii. (b) Explain formation iii. (a) What are lattice iii. (b) Explain formation iii. (a) What is me viii. (b) What is me viii. What is me viii. What is me viii. (b) What is me viii. (c) What is me viii. (d) What is me viii. (e) What is me viii. (e) What is me viiii. (e) What is me viiii. (e) What is me viiii.	answers of any six pergy and write its unit. Ventional current. Ventional power. Ventional power. Ventional power. Ventional power and six part of any six pa	set strom the like when the like when the forms and their the like when	following. What is mea What harmful Write names What is the fer stations of P following. What is Galv Write two use Write two use What is Hard following. Write any two Define E.E.G What is mea What is SKU ction -II ollowing. tic energy and out the environn uses. Ontrol the dang ree uses.	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. ranometer? es of E-mail. es of alternating curl. I Disk?	Total Many burning of the foot hardware.	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12 2x6=12 2x6=12 8x3=24 1+3=04 1+3=04 2+2=04 1x4=04 04 04 1+3=04 2+2=04 1+3=04 1+3=04
i. Define energiii. Define electivii. Our radiose ix. Write the notate iii. Define Georgiii. Write two how Define Fuse iii. Define information in Define information iii. Define Derroiii. Define Derroiii. Define lattice iii. What is me viii. What is The viii. (a) Describe a viii. (b) Explain formation iii. (a) What are lattice iii. (b) Explain formation iii. (a) What is me viii. (b) What is me viii. What is me viii. What is me viii. (b) What is me viii. (c) What is me viii. (d) What is me viii. (e) What is me viii. (e) What is me viiii. (e) What is me viiii. (e) What is me viiii.	answers of any six pergy and write its unit. Ventional current. Itronics. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does ames and places of two answers of any six parthermal power. It is a receiver How does answers of any six parthermal by Degradation of erganswers of any six parther by crystallization? It is a receiver How does and power any six parther its function and by crystallization? It is a receiver How does and place and give an example and give an example and by crystallization? It is difference to the receiver any three question and how lifterent types of capacity any four precautionary may be a receiver types of capacity and four precautionary may be a receive the production of the receiver types of capacity and the production of the receiver types of capacity and the production of the receiver types of capacity and the production of the receiver types of capacity and the receiver types of	set strom the like it work? vill nuclear powers from the like it will nuclear powers from the like it will not set we have and their the lace with lace wi	following. What is mea. What harmful Write names. What is the fer stations of Pfollowing. What is Galv. Write two use. What is Hard. What is Hard. What is Hard. What is see. What is see. What is see. What is see. What is mea. What is SKU. Ction -II collowing. It cenergy and the environmuses. Control the dangeree uses. Coroperties.	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. ranometer? es of E-mail. es of alternating curl. I Disk?	Total Many burning of the foot hardware.	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12 2x6=12 2x6=12 8x3=24 1+3=04 1+3=04 2+2=04 1+3=04 04 04 1+3=04 2+2=04
i. Define energiii. Define electivii. Our radiose ix. Write the notate iii. Define Georgiii. Write two how Define Fuse iii. Define information in Define information iii. Define Derroiii. Define Derroiii. Define lattice iii. What is me viii. What is The viii. (a) Describe a viii. (b) Explain formation iii. (a) What are lattice iii. (b) Explain formation iii. (a) What is me viii. (b) What is me viii. What is me viii. What is me viii. (b) What is me viii. (c) What is me viii. (d) What is me viii. (e) What is me viii. (e) What is me viiii. (e) What is me viiii. (e) What is me viiii.	answers of any six pergy and write its unit. Ventional current. Ventional power. Ventional power. Ventional power. Ventional power and six part of any six pa	set strom the like it work? vill nuclear powers from the like it will nuclear powers from the like it will not set we have and their the lace with lace wi	following. What is mea What harmful Write names What is the fer stations of P following. What is Galv Write two use Write two use What is Hard following. Write any two Define E.E.G What is mea What is SKU ction -II ollowing. tic energy and out the environn uses. Ontrol the dang ree uses.	nt by short circuit? gases are emitted to of four main parts of unction of a switch? akistan. ranometer? es of E-mail. es of alternating curl. I Disk?	Total Many burning of the foot hardware.	2x6=12 fossil fuel? 2x6=12 2x6=12 2x6=12 8x3=24 1+3=04 1+3=04 2+2=04 1+3=04 04 04 1+3=04 2+2=04 1+3=04